


انجيل زاگان ء پڻ
ماس پس

انسان ء ظم آنی
شروع



نوشتہ کار: Edward Hughes

الستر کار: Byron Unger; Lazarus

Alastair Paterson

اپنائنگ کار: M. Maillot; Tammy S.

مترجم کار: www.christian-translation.com

پیداوار کار: Bible for Children

www.M1914.org

BFC

PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1

Canada

©2020 Bible for Children, Inc.

لائسنس: ترا حق استیں کہ تہو این قصہ ء کاپی او پرنٹ کڑت کنے،
تا وخت ء کہ تہو اشی ء سودا نہ کنے۔



الله ٿائنتگ هر چيز! كديں الله ٿائنتگ
پيسر مرد, آدم, آ زندگ بو نيام باگ, باغ
ء ايٿن ار ايشياو, آئي جنين, ايو آن جواني
ء وش فرمانبرداري ٿتن الله ر

مزه ايشيياو, آئي دان

كه باضري

يك, يوئك

روچ-



"چه خدا نه گشت که

پر درخت ء چه نه ور؟"

مات ایو ء پرسیت۔ "ما

یک پل ہچ ء بیدس پر پل ورگ کڑت نہ کنان۔

آ جباب ء دات۔ "اگہ ما آ پل ء دست زت انت یا

وارتنت ما مرین۔ "تہو نہ مرین،" مار

جباب دات۔ "تو بوئگ دوست

دارنت اللہ" ایو لوٹت میوگ آ

ی درخت آ ہشکت تان مار ر

وارتہ

میوگاؤ۔



ايو ۽ خدا ۽ نا فرماني بچ پيش آ
آدم ۽ پل ۽ ورگ ۽ ايشت. آدم
گوشگ بوتت "نه" من خدا ۽
لوزاني نا فرماني ۽ نه ڪنا.





کدین آدم ر ایو گناہاو، آن زانت آیان نئن اردکین لوجیا
ایشت تها انجیر، آن وناران ڈکت ر ڈکت نیام بوچ اچ الله '
ہاضری یاو۔



شم ۽ سارتي ۽ خدا باغ آيات۔ آ زانت که آدم او ايو چه
کتان۔ آدم ايو ۽ ٻير آ ٻير کرت، ايو مار ۽ ٻير آ ٻير
کرت "مار ۽ لعنت انت۔ زالاناں درڏ انت وخته
که زاگ پيدا بهي۔" "آدم، پرچيوا، پچيوا تو
گناه، زمين لعنت ار ۽ خار اور تسٺليس
او تور مرضي پيد تان گرگ تي
پر روچ نان او۔"





الله ريچ آدم ر ايو درا

اجب باڳاو, باغ پر چيو ا, پچيو ا اُن

گنہاں يا, اُن جتا اچ زندگي- ديگ

نئن الله! يا الله روکين سگار ٿهائنت

آيانا ڏنا ڪنگ ۽ پھ- الله آدم او ايو

۽ پھ ڪوٽ ۽ پوست ٿهائنت- الله

پوست ۽ ڇھ ڪجا پاڙت؟



وہدءسرا, یک ودی خاندان تان ئت آدم ر ایو او آوانی
بچک پیسر, ئت باغبان یک آوانی بچک دومی, قابل, ئت
یک شوانگ۔ یک روچ کین خدا آ جوانین
سبزیں تحفہ یارٹ۔ آیل وتی جوانین گٹور

ء خدا ء تحفہ


ء دات۔ خدا

آیل ء تحفہ

بچہ وش بو۔



الله وش نٔت ار نه كين ء انعام او كين
گت باز گصه مگر، ليكن الله گشت،
كننگ "اگر چه تو ء سيدها، مرضى
تو نه بوئگ قبول كنگ بيت؟"




کین ۽ گصہ نہ شو۔ چیز
۽ وخت پیش آ اییل ۽ حملہ
کو۔ او آئی آ کشت۔



الله کین ء گوناں ہر کڑت۔ "اییل،
تہی براس کجا انت؟" "من نہ
زانی: کین گوشت۔" "چہ من وتی
براس ء پیالدار انت؟" خدا کین ء
سزا دات او آئی ء قابلیت ء بڑت
او آئی آ در بدر کڑت۔



کین خدا ی ہاضری ء چہ ڈنا شو۔ آ آدم او ایو ء یک
جنک ء آرہس کڑتت۔ آ یک خاہوت ء ودینتنت۔ زو، کین ء
نواسگ او بن نواسگ کہ شار
ء دیستنت پر کڑتنت۔




امی وختا، آدم او ایو ء خابوت
زوت ودت۔ روچانی تہاں۔ مردم
مرچی آچہ زیات زندگ بوتنت۔



كديں آئي، ايشي سیت نٽ ودي بچڪ، ايو
گشت، "الله دات منا سیت تان بدلنت ایل" یک
خدائی سیت نٽ مرد کئے زندگ بو 912 سال
رات باز الواداو۔



نيام جهان دنيا، مخلوق زيات گيشتن ر بوت بدمعاش
اولوڙا يڪاو، يونڪ پيروي ڪو اندگه پيڙي
پيلويءَ، الله فيصله ڪرت تان تباه ڪرت۔۔
انسانيت ءِ راو۔۔۔ ڪل ءِ جناور او چڪ۔
خدا انسان ءِ ٽهائنگ



ءِ پشوان ات۔
بله يڪ مرڙم
خدا ءِ وش ڪو۔۔۔



اے مڑدم نوح ات۔ سیت ء یک اولاد، نوح نیک او
بے قصور ات۔ آ خدا ء گونا چلت۔ آ ہم سوچت
ایشی، آئی مسٹ اولاداں تاں عمل کننگ
الله انور، نون الله سوچک تاں
کارمرز نوح نیام
یک باز

عجبار
خاص راباؤ۔



انسان ۽ غم آنی شروع

یک قصہ ۽ خدا ۽ لوزان، انجیل


تہا دیدگ بوتہا

جینسز 3-6


"تہی لوزانی دلچسپی روشنائی دات۔"

پ س ا ل م 130:119





2



60



انجیل مارا مہے خدا وند ء بارہ ء گوشى۔
آ کہ مارا بنائینت او ہمے لوٹی کہ ما آئی ارہ درست بکناتیں۔

خدا وند زانی کہ ما غلطیں چیز کڑتا، آثارہ خدا وند گنا گوشى؛ گنا ء سزا
موت انت، لیکن خدا وند ترہ بہاز دوست کنت او آ وتی پاک ء زاگ چیزس ء
دیم دات کہ تہی واسطہ بمری او سزا بزوری، چیزس زندہ بوت یات او پس
جنت ء شو! اگہ تہو چیزس ء باور کنے او آئی ہچے وتی گناہانی معافی لوٹے،
آ کنت، آ نو کائی او تہی گونا بہی، او تہو آئی ء گونا ہمیشہ ہمیشہ ء بہے۔

اگہ ترا یقین کیت کہ اے راست انت، تو خدا آ گش:

جوانین عیسی، منہ یقین انت کہ تو خدائے، او منی گناہانہ پہ مرگہ
پہ یک مردم بھوتیں، او تون پس زندہ۔ مہربانی کن منی زندگی آتہا بیا
و منی گناہانہ مراگ کن، تاکہ من نوکیں زندگی ء گندی، او یک یک روچہ
ہمیشہ پہ تئی گونہ بی۔ تئی اطاعت پہ او وتی زاگے ڈول آتئی واستہ
پہ زندگ بئیگہ پہ منی کمک آ کن۔ آمین۔

بائبل آ وان و گون ہدا ہر روچ گپ کن۔ جان 3:16

